

Rom

Chapter 3

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου? ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς
کیا پھر-ہے وہ بڑائی کی یہودی یا کیا-ہے وہ فائدہ کا
[G5101](#) [G3767](#) [G3588](#) [G4053](#) [G3588](#) [G2453](#) [G2228](#) [G5101](#) [G3588](#) [G5622](#) [G3588](#)

περιτομῆς?

ختنہ

[G4061](#)

ہے؟ فائدہ کوئی کا ختنہ یا کا ہونے یہودی کیا تو

2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον, πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ
بہت سے ہر پہلو خاص-طور-پر ہے-شک کیونکہ کہ ان-کو-سپرد-کیے-گئے وہ
[G4183](#) [G2596](#) [G3956](#) [G5158](#) [G4412](#) [G3303](#) [G1063](#) [G3754](#) [G4100](#) [G3588](#)

λόγια τοῦ Θεοῦ.

کلام جو-ہے خدا-کا
[G3051](#) [G3588](#) [G2316](#)

ہے۔ گیا کیا سپرد کے ان کلام کا اللہ کہ یہ تو اول کا! طرح ہر ہاں، جی

3 τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες? μή ἡ ἀπιστία αὐτῶν, τὴν πίστιν τοῦ
کیا کیونکہ اگر ہے-ایمان-ہوئے کچھ نہیں وہ ہے-ایمانی ان-کی اُس وفاداری ہے
[G5101](#) [G1063](#) [G1487](#) [G0569](#) [G5100](#) [G3361](#) [G3588](#) [G0570](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4102](#) [G3588](#)

Θεοῦ καταργήσει?

خدا-کی باطل-کے-گی
[G2316](#) [G2673](#)

گی؟ جائے ہو ختم بھی وفاداری کی اللہ سے اس کیا ہوا؟ کیا تو نکلے ہے وفا بعض سے میں ان اگر

4 μὴ γένοιτο! γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης,
ہرگز نہیں-ہو بونے-دو بلکہ وہ خدا سچا ہر اور انسان جھوٹا
[G3361](#) [G1096](#) [G1096](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0227](#) [G3956](#) [G1161](#) [G0444](#) [G5583](#)

καθὼς γέγραπται, "Ὅπως ἄν δικαιοθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσεις
جیسے لکھا-ہے تاکہ یقیناً تو-راستباز-ٹھہرے میں ان باتوں تیری اور اور غالب-آئے
[G2531](#) [G1125](#) [G3704](#) [G0302](#) [G1344](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3056](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3528](#)

ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
میں اُس فیصلہ-کرنے تیرے
[G1722](#) [G3588](#) [G2919](#) [G4771](#)

کرتے عدالت اور ٹھہرے راست وقت بولتے تو کہ ہے لازم ہے، لکھا میں مُقدس کلام یوں ہے۔ جھوٹا انسان ہر گو ٹھہرے سچا اللہ کہ ہے لازم نہیں! کبھی آئے۔ غالب وقت

5 εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν, Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν?
 اگر لیکن وہ ناراستی ہماری خدا کی راستبازی کو ظاہر کرے ہم کہیں گے کیا
[G1487](#) [G1161](#) [G3588](#) [G0093](#) [G1473](#) [G2316](#) [G1343](#) [G4921](#) [G5101](#) [G2046](#)

μὴ ἄδικος ὁ Θεός, ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν? κατὰ ἄνθρωπον
 کیا ناراست ہے خدا جو لاتا ہے اُس غضب کے مطابق انسان
[G3361](#) [G0094](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2018](#) [G3588](#) [G3709](#) [G2596](#) [G0444](#)

λέγω.

میں کہتا ہوں
[G3004](#)

گا ہو نہیں بے انصاف اللہ کیا تو ہے۔ ہوتی ظاہر راستی کی اللہ پر لوگوں سے اس کیونکہ ہے، ہوتا مقصد اچھا ایک کا ناراستی [] ہماری ہے، سکتا کہہ کوئی
 ہوں (ربا کر پیش خیال انسانی) میں کرے؟ [] نازل پر ہم غضب اپنا وہ اگر

6 μὴ γένοιτο! ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον?
 برگز نہیں ہو ورنہ کیسے گا فیصلہ کرے وہ خدا اُس دنیا کا
[G3361](#) [G1096](#) [G1893](#) [G4459](#) [G2919](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2889](#)

سکتا؟ کر طرح کس عدالت کی دنیا وہ پھر تو ہوتا نہ راست اللہ اگر نہیں! برگز

7 εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι, ἐπερίσσευσεν
 اگر لیکن وہ سچائی جو ہے خدا کی میں اُس میرے جھوٹ سے بڑھی
[G1487](#) [G1161](#) [G3588](#) [G0225](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1699](#) [G5582](#) [G4052](#)

εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι?
 کی طرف اُس جلال کے اُس کیوں ابھی میں بھی بطور گنہگار فیصلہ کیا جاؤں
[G1519](#) [G3588](#) [G1391](#) [G0846](#) [G5101](#) [G2089](#) [G2504](#) [G5613](#) [G0268](#) [G2919](#)

گار گناہ کر کیوں مجھے وہ تو ہے بڑھتا جلال کا اُس یوں اور ہے کرتا نمایاں سے کثرت کو سچائی کی اللہ جھوٹ میرا [] اگر کرے، اعتراض آور کوئی شاید
 ہے؟ [] سکتا دے قرار

8 καὶ μὴ, καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθὼς φασὶν τινες ἡμᾶς λέγειν,
 اور نہ جیسے ہم پر بہتان لگایا جاتا ہے اور جیسے کہتے ہیں ہم کچھ کہتے ہیں
[G2532](#) [G3361](#) [G2531](#) [G0987](#) [G2532](#) [G2531](#) [G5346](#) [G5100](#) [G1473](#) [G3004](#)

ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακὰ, ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθὰ? ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν
 کہ ہم کریں کہ وہ برائیاں تاکہ آئیں وہ بھلائیاں وہ ان کی سزا راست
[G3754](#) [G4160](#) [G3588](#) [G2556](#) [G2443](#) [G2064](#) [G3588](#) [G0018](#) [G3739](#) [G3588](#) [G2917](#) [G1738](#)

ἐστίν.

ہے
[G1510](#)

جائے۔ ٹھہرایا مجرم کو لوگوں ایسے کہ ہے تقاضا کا انصاف نکلے۔ [] بھلائی تاکہ کریں بُرائی ہم [] آؤ، ہیں، کہتے ہم کہ ہیں بکتے بھی کفر یہ پر ہم لوگ کچھ

9 τί οὖν? προεχόμεθα? οὐ πάντως; προητιασάμεθα γὰρ, Ἰουδαίου τε
 کیا پھر ہم بہتر ہیں نہیں برگز ہم نے پہلے الزام لگایا کیونکہ یہودیوں دونوں
[G5101](#) [G3767](#) [G4284](#) [G3756](#) [G3843](#) [G4256](#) [G1063](#) [G2453](#) [G5037](#)

καὶ Ἑλλήνας, πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι.
 اور یونانیوں سب کے نیچے گناہ ہیں
[G2532](#) [G1672](#) [G3956](#) [G5259](#) [G0266](#) [G1510](#)

میں قبضے کے گناہ ہی سب یونانی اور یہودی کہ ہیں چکے لگا الزام یہ ہی پہلے تو ہم نہیں۔ بالکل ہیں؟ برتر سے دوسروں یہودی ہم کیا کہیں؟ کیا ہم اب
 ہیں۔

10 καθὼς γέγραπται, ὅτι Οὐκ ἔστιν δίκαιος, οὐδὲ εἷς;
 جیسے لکھا ہے کہ کوئی نہیں ہے راستباز ایک بھی نہیں ایک
[G2531](#) [G1125](#) [G3754](#) [G3756](#) [G1510](#) [G1342](#) [G3761](#) [G1520](#)

نہیں۔ بھی ایک ہے، باز راست جو نہیں [] کوئی ہے، لکھا یوں میں مُقَدَّس کلام

11 οὐκ ἔστιν ὁ συνίων; οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν.
کوئی-نہیں ہے جو سمجھنے-والا کوئی-نہیں ہے جو تلاش-کرنے-والا اُس خدا
G3756 G1510 G3588 G4920 G3756 G1510 G3588 G1567 G3588 G2316

ہے۔ طالب کا اللہ جو نہیں کوئی ہے، دار سمجھ جو نہیں کوئی

12 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν; οὐκ ἔστιν ὁ ποιῶν χρηστότητα,
سب بھٹک-گئے مل-کر-وہ نکلے-ہو-گئے کوئی-نہیں ہے جو کرنے-والا بھلائی
G3956 G1578 G0260 G0889 G3756 G1510 G3588 G4160 G5544
οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
نہیں ہے بھی ایک
G3756 G1510 G2193 G1520

نہیں۔ بھی ایک ہو، کرتا بھلائی جو نہیں کوئی ہیں۔ گئے بگڑ سب کے سب گئے، بھٹک سے راہ صحیح سب افسوس،

13 τάφος ἀνεωγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν; ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολοῦσαν;
قبر کھلی-ہوئی وہ حلق اُن-کا سے زبانوں اُن-کی وہ-فریب-کرتے-ہیں
G5028 G0455 G3588 G2995 G0846 G3588 G1100 G0846 G1387
ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χεῖλη αὐτῶν;
زہر سانپوں-کا ہے-کے-نیچے اُن بونٹوں اُن-کے
G2447 G0785 G5259 G3588 G5491 G0846

ہے۔ زہر کا سانپ میں بونٹوں کے اُن ہے۔ دیتی فریب زبان کی اُن ہے، قبر کھلی گلا کا اُن

14 ὦν τὸ στόμα, ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει;
جن-کا وہ منہ لعنت اور کڑواہٹ سے-بہرا
G3739 G3588 G4750 G0685 G2532 G4088 G1073

ہے۔ بہرا سے کڑواہٹ اور لعنت منہ کا اُن

15 ὄξεις οἱ πόδες αὐτῶν, ἐκχέαι αἷμα;
تیز ہیں پاؤں اُن-کے بہانے-کو خون
G3691 G3588 G4228 G0846 G1632 G0129

ہیں۔ کرتے جلدی لئے کے بہانے خون پاؤں کے اُن

16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν;
تباہی اور بدحالی میں-ہے اُن راستوں اُن-کے
G4938 G2532 G5004 G1722 G3588 G3598 G0846

ہیں، جاتے چھوڑ بربادی و تباہی وہ پیچھے اپنے

17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν;
اور راہ-کو کوئی سلامتی-کی نہیں وہ-جانتے-ہیں
G2532 G3598 G1515 G3756 G1097

جانتے۔ نہیں راہ کی سلامتی وہ اور

18 οὐκ ἔστιν φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
نہیں ہے خوف خدا-کا سامنے اُن آنکھوں اُن-کے
G3756 G1510 G5401 G2316 G0561 G3588 G3788 G0846

ہوتا۔ [] نہیں خوف کا خدا سامنے کے آنکھوں کی اُن

- 19 Οἶδαμεν δὲ, ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ
 لیکن ہم-جانتے-ہیں اسے جو-ہیں-میں اُس شریعت
[G1492](#) [G1161](#) [G3754](#) [G3745](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3551](#)
- λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῆ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος
 تاکہ بولتی-ہے ہر منہ بند-ہو-جائے اور مجرم ہو-جائے ساری وہ دُنیا
[G2980](#) [G2443](#) [G3956](#) [G4750](#) [G5420](#) [G2532](#) [G5267](#) [G1096](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2889](#)
- τῷ Θεῷ.
 کے خدا
[G3588](#) [G2316](#)

تمام اور جائیں گئے ختم بہانے کے انسان پر کہ ہے یہ مقصد ہے۔ گئی کی وہ سپرد کے جن ہے فرماتی انہیں ہے فرماتی کچھ جو شریعت کہ ہیں جانتے ہم اب
 ٹھہرے۔ مجرم سامنے کے اللہ دنیا

- 20 διότι ἐξ ἔργων νόμου, οὐδὲν δικαιοθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ;
 اس-لیے سے کاموں شریعت-کے نہیں راستباز-ٹھہرے-گا کوئی-بھی بشر سامنے اُس-کے
[G1360](#) [G1537](#) [G2041](#) [G3551](#) [G3756](#) [G1344](#) [G3956](#) [G4561](#) [G1799](#) [G0846](#)
- διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
 کے-ذریعے کیونکہ شریعت ہے-پہچان گناہ-کی
[G1223](#) [G1063](#) [G3551](#) [G1922](#) [G0266](#)

کا ہونے گار گناہ اندر ہمارے کہ ہے یہ کام کا شریعت بلکہ سکتا، ٹھہر نہیں باز راست سامنے کے اُس بھی کوئی سے کرنے پورے تقاضے کے شریعت کیونکہ
 کرے۔ پیدا احساس

- 21 Nunì δὲ, χωρὶς νόμου, δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ
 اب لیکن بغیر کے شریعت-کے راستبازی خدا-کی ظاہر-ہوئی-ہے گواہی-دی-ہوئی سے
[G3570](#) [G1161](#) [G5565](#) [G3551](#) [G1343](#) [G2316](#) [G5319](#) [G3140](#) [G5259](#)
- τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν;
 اُس شریعت اور اُن نبیوں
[G3588](#) [G3551](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4396](#)

صحیفے کے نبیوں اور توریت ہیں۔ سکتے ٹھہر باز راست سامنے کے اُس ہی بغیر کے شریعت ہم سے جس ہے کیا انکشاف کا راہ ایک پر ہم نے اللہ اب لیکن
 ہیں۔ کرتے تصدیق کی اِس بھی

- 22 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντα τοὺς
 راستبازی یعنی خدا-کی کے-ذریعے ایمان یسوع مسیح-پر کی-طرف سب اُن
[G1343](#) [G1161](#) [G2316](#) [G1223](#) [G4102](#) [G2424](#) [G5547](#) [G1519](#) [G3956](#) [G3588](#)
- πιστεύοντας, οὐ γὰρ ἐστὶν διαστολή.
 ایمان-لانے-والوں کوئی کیونکہ ہے-فرق نہیں-ہے فرق
[G4100](#) [G3756](#) [G1063](#) [G1510](#) [G1293](#)

نہیں، فرق بھی کوئی کیونکہ ہے۔ لے کے سب راہ یہ اور ہے۔ دیتا قرار باز راست ہمیں اللہ تو ہیں لاتے ایمان پر مسیح عیسیٰ ہم جب کہ ہے یہ راہ

- 23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
 سب کیونکہ نے-گناہ-کیا اور محروم-ہیں اُس جلال جو-ہے خدا-کے
[G3956](#) [G1063](#) [G0264](#) [G2532](#) [G5302](#) [G3588](#) [G1391](#) [G3588](#) [G2316](#)

ہے، کرتا تقاضا وہ کا جس ہیں محروم سے جلال اُس کے اللہ سب کیا، گناہ نے سب

- 24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς
 راستباز-ٹھہرتے-ہوئے مفت سے اُس-کے فضل کے-ذریعے اُس مخلصی جو
[G1344](#) [G1432](#) [G3588](#) [G0846](#) [G5485](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0629](#) [G3588](#)
- ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
 ہے-میں مسیح یسوع
[G1722](#) [G5547](#) [G2424](#)

دیا۔ نے عیسیٰ مسیح جو سے وسیلے کے فدئیے اُس ہیں، جاتے ٹھہرائے باز راست سے ہی فضل کے اللہ میں مفت سب اور

25	ὄν	προέθετο	ὁ	Θεὸς	ἰλαστήριον,	διὰ	[τῆς]	πίστεως	ἐν	τῷ	αὐτοῦ
	جس-کو	پیش-کیا	اُس	خدا-نے	کفارہ	کے-ذریعے	اُس	ایمان	میں	اُس	اُس-کے
	G3739	G4388	G3588	G2316	G2435	G1223	G3588	G4102	G1722	G3588	G0846
	αἵματι,	εἰς	ἔνδειξιν	τῆς	δικαιοσύνης	αὐτοῦ,	διὰ	τὴν	πάρεσιν	τῶν	
	خون	کے-لیے	ظاہر-کرنے	کی	راستبازی	اُس-کی	کی-وجہ-سے	اُس	درگزر	اُن	
	G0129	G1519	G1732	G3588	G1343	G0846	G1223	G3588	G3929	G3588	
	προγεγονότων	ἁμαρτημάτων --									
	پہلے-ہوئے	گناہوں-کی									
	G4266	G0265									

یوں ہے۔ ملتی معافی کی گناہوں کو والوں لانے ایمان سے جس کفارہ ایسا کیا، پیش کر بنا وسیلہ کا کفارہ باعث کے خون کے اُس کو عیسیٰ نے اللہ کیونکہ رباباز سے دینے سزا کی گناہوں میں تحمل و صبر اپنے وہ جب میں ماضی پہلے کی، ظاہر راستی اپنی نے اللہ

26	ἐν	τῇ	ἀνοχῇ	τοῦ	Θεοῦ;	πρὸς	τὴν	ἔνδειξιν	τῆς	δικαιοσύνης	αὐτοῦ
	میں	اُس	برداشت	جو-ہے	خدا-کی	کے-لیے	اُس	ظاہر-کرنے-کے	کی	راستبازی	اُس-کی
	G1722	G3588	G0463	G3588	G2316	G4314	G3588	G1732	G3588	G1343	G0846
	ἐν	τῷ	νῦν	καιρῷ,	εἰς	τὸ	εἶναι	αὐτὸν	δίκαιον,	καὶ	δικαιοῦντα
	میں	اُس	موجودہ	وقت	تاکہ	وہ	ہو	وہ	راست	اور	راستباز-ٹھہرانے-والا
	G1722	G3588	G3568	G2540	G1519	G3588	G1510	G0846	G1342	G2532	G1344
	τὸν	ἐκ	πίστεως	Ἰησοῦ.							
	اُس-کو	سے	ایمان	پر							
	G3588	G1537	G4102	G2424							

ہے۔ لایا ایمان پر عیسیٰ جو ہے ٹھہراتا باز راست کو ایک ہر اور ہے راست وہ کہ ہے کرتا ظاہر وہ سے اِس بھی۔ میں زمانے موجودہ اب اور

27	Ποῦ	οὖν	ἢ	καύχησις?	ἐξεκλείσθη.	διὰ	ποίου	νόμου?	τῶν	ἔργων?	οὐχί,
	کہاں	پھر-ہے	وہ	فخر	نکال-دیا-گیا	کے-ذریعے	کس	شریعت	وہ	کاموں-کی	نہیں
	G4226	G3767	G3588	G2746	G1576	G1223	G4169	G3551	G3588	G2041	G3780
	ἀλλὰ	διὰ	νόμου	πίστεως.							
	بلکہ	کے-ذریعے	شریعت	ایمان-کی							
	G0235	G1223	G3551	G4102							

سے۔ شریعت کی ایمان بلکہ نہیں، سے؟ شریعت کی اعمال کیا سے؟ شریعت کس ہے۔ گیا دیا کر ختم تو اُسے ربا؟ کہاں فخر ہمارا اب

28	λογιζόμεθα	γὰρ	δικαιοῦσθαι	πίστει	ἄνθρωπον,	χωρὶς	ἔργων	νόμου.
	ہم-سمجھتے-ہیں	پس	راستباز-ٹھہرنا	ایمان-سے	انسان-کا	بغیر	کاموں	شریعت-کے
	G3049	G1063	G1344	G4102	G0444	G5565	G2041	G3551

سے۔ اعمال کہ نہ ہے، جاتا ٹھہرایا باز راست سے ایمان کو انسان کہ ہیں کہتے ہم کیونکہ

29	ἢ	Ἰουδαίων	ὁ	Θεὸς	μόνον,	οὐχὶ	καὶ	ἐθνῶν?	ναὶ,	καὶ	ἐθνῶν,
	یا	یہودیوں-کا	ہے	خدا	صرف	نہیں	بھی	غیر-قوموں-کا	ہاں	بھی	غیر-قوموں-کا
	G2228	G2453	G3588	G2316	G3440	G3780	G2532	G1484	G3483	G2532	G1484

ہے۔ بھی کا غیر یہودیوں ہاں، نہیں؟ کا غیر یہودیوں ہے؟ خدا کا یہودیوں صرف اللہ کیا

30	εἶπερ	εἰς	ὁ	Θεός	ὃς	δικαιώσει	περιτομὴν	ἐκ	πίστεως,	καὶ
	اگر-واقعی	ایک	وہ	خدا-ہے	جو	راستباز-ٹھہرائے-گا	ختنہ-والوں-کو	سے	ایمان	اور
	G1512	G1520	G3588	G2316	G3739	G1344	G4061	G1537	G4102	G2532
	ἀκροβυστίαν	διὰ	τῆς	πίστεως.						
	نا-ختنہ-والوں-کو	کے-ذریعے	اُسی	ایمان						
	G0203	G1223	G3588	G4102						

گاہے گاہے باز راست سے ہی ایمان کو دونوں نامختوں اور مختوں جو ہے ہی ایک اللہ کیونکہ

31 νόμον οὐκ καταργούμεν διὰ τῆς πίστεως? μή γένοιτο! ἀλλὰ νόμον
شریعت-کو پھر ہم-باطل-کرتے-ہیں کے-ذریعے اُس ایمان برگز نہیں-ہو بلکہ شریعت-کو
[G3551](#) [G3767](#) [G2673](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4102](#) [G3361](#) [G1096](#) [G0235](#) [G3551](#)

یستانونہم.

ہم-قائم-رکھتے-ہیں
[G2476](#)

ہیں۔ رکھتے قائم کو شریعت ہم بلکہ نہیں، برگز ہیں؟ کرتے منسوخ سے ایمان کو شریعت ہم کیا پھر